

## 111301- جن اور انسان کا آپس میں نکاح کے متعلق تفصیلی بیان

سوال

کیا جن اور انسان کا آپس میں نکاح صحیح ہے، اور جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟

پسندیدہ جواب

اول :

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہماری ہی جنس سے عورت کو پیدا کیا، تو یہ بھی بشر اور انسان ہی بنائی تا کہ مرد اس کو حاصل کر کے سکون حاصل کرے، اور ان دونوں کی آپس میں محبت و مودت اور الفت و رحمت پیدا ہو، اور زمین ذریت آدم سے آباد ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے﴾۔ النحل (72)۔

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿اور اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام و راحت پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت و ہمدردی قائم کر دی، یقیناً خور و فخر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں﴾۔ الروم (21)۔

شیخ محمد امین شنفیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں :

قولہ تعالیٰ : ﴿اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے

## بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔

اللہ عزوجل نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس نے بنو آدم پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ اس کی جنس میں سے ہی اس کی بیوی بنائی، جو ان جیسی شکل اور جنس رکھتی ہے، اور اگر وہ کسی دوسری قسم سے بیوی بنا دیتا تو پھر ان میں محبت و مودت اور بہمدردی نہ ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اولاد آدم سے ہی مرد و عورت بنائے، اور عورتوں کو مردوں کی بیویاں بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت اور احسان ہے، اسی طرح یہ اس کی نشانی بھی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ وحدہ ہی عبادت کا مستحق ہے کوئی اور نہیں۔

اور پھر اس نعمت اور احسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اسے اپنی نشانیوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام و راحت پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت و بہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں﴾۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکارہ چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا ان پھر اس سے جوڑے یعنی زو مادہ بنائے﴾۔ القیامت (36-39)۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کی طرف آرام پاسکے﴾۔

دیکھیں: اضواء البیان (412/2)۔

رہا مسئلہ کہ جن اور انسان کا آپس  
میں ایک دوسرے سے شادی کرنا: تو اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے  
اور اس میں علماء کے تین اقوال ہیں:

پہلی قول:

امام احمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق  
یہ حرام ہے۔

دوسرا قول:

مکروہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اسے  
مکروہ کہا ہے، اور اسی طرح حکم بن عتیبہ، اور قتادہ اور حسن، عقبہ الاصم، حجاج بن  
ارطاة اور اسحاق بن راہویہ نے بھی مکروہ کہا ہے، اور ان میں سے بعض کے ہاں کراہت  
تخریبی ہے۔

اور اکثر اہل علم کا قول یہی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ  
کہتے ہیں:

”جنوں کی شادی اکثر علماء نے مکروہ  
قرار دی ہے“

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ (40/19)۔

تیسرا قول:

بعض شافعی حضرات کے ہاں مباح ہے۔

شیخ محمد امین شنفیظی رحمہ اللہ کہتے  
ہیں:

”بنو آدم اور جنوں کے مابین شادی کے  
متعلق علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، اہل علم کی ایک جماعت اسے ممنوع قرار  
دیتی ہے، اور بعض اہل علم اسے مباح کہتے ہیں۔“

مناوی رحمہ اللہ ”جامع الصغیر کی  
شرح“ میں لکھتے ہیں :

احناف کی کتاب فتاویٰ سراجیہ میں ہے :  
جنوں اور انسانوں اور پانی کے انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ؛  
کیونکہ ان کی جنس مختلف ہے .

اور شافعیہ کے فتاویٰ البارزی میں درج  
ہے کہ :

ان دونوں کے مابین نکاح جائز نہیں ،  
اور ابن عماد اس کے جواز کو راجح قرار دیتے ہیں .

اور المارودی کا کہنا ہے :

یہ تو عقلی طور پر بھی صحیح نہیں  
مستنکر ہے ؛ کیونکہ دونوں جنس ہی مختلف ہیں ، اور طبعی طور پر بھی ان میں اختلاف پایا  
جاتا ہے ؛ کیونکہ آدمی تو جسمانی ہے ، اور جن روحانی ہے ، اور آدم بچتی ہوئی مٹی سے  
پیدا ہوا ہے ، اور جن آگ کے شعلے سے ، اور اس فرق کے ہوتے ہوئے دونوں کا امتزاج صحیح  
نہیں ، اور اس اختلاف کی موجودگی میں نسل بھی نہیں ہو سکتی ” آھ

اور ابن عربی مالکی کا کہنا ہے :

” ان کا عقلی طور پر نکاح جائز ہے ،  
اور اگر اس میں نقل یعنی نص صحیح ہو تو پھر تو بہت اچھا اور بہتر ہے ”

اس کو مقید کرنے والے کا کہنا ہے :

میرے علم کے مطابق تو کتاب اللہ اور  
سنت نبویہ میں کوئی ایسی نص نہیں ملتی جو انسان اور جن کے مابین نکاح کے جواز پر  
دلالت کرتی ہو ، بلکہ آیات کے ظاہر سے جو لازم آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ، چنانچہ  
اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان :

اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں  
سے ہی بیویاں بنائیں النحل (72) .

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر بطور احسان  
ذکر کیا ہے کہ ان کی بیویاں ان کی جنس میں سے ہیں :

اس سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ  
تعالیٰ نے ان کی جنس مخالف سے ان کی بیویاں نہیں بنائیں، جیسا کہ جن اور انسان کی  
جنس مختلف ہے، اور یہ ظاہر ہے، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی  
ہے :

﴿اور اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ  
تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام و راحت پاؤ، اس نے تمہارے  
درمیان محبت و ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت  
سی نشانیاں ہیں﴾۔ الروم (21).

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان :

﴿اور اس کی نشانیاں میں سے ہے کہ  
تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں﴾۔

یہ بطور احسان اور نعمت ہے، جو اس پر  
دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنس کے علاوہ کسی دوسری جنس سے ان کی بیویاں  
پیدا نہیں کیں.

دیکھیں : اضواء البیان (43/3).

اور شیخ ولی زار بن شاہر الدین حفظہ  
اللہ کہتے ہیں :

” واقع کے اعتبار سے یہ معاملہ کچھ

اس طرح ہے کہ : سب نے اس کے وقوع کا جواز قرار دیا ہے، اور اس لیے کہ اس سلسلہ میں  
جائز اور ممانعت میں کوئی قطعی نص نہیں ہے، تو ہم شرعی طور پر اس کے عدم جواز کی  
طرف مائل ہیں؛ کیونکہ اس کے جواز کے نتیجہ میں کئی ایک خطرات اور خرابیاں مرتب ہوتی  
ہیں مثلاً :

1 بنوبشر میں فحاشی پیدا ہوگی،

اور وہ اسے جن کی طرف منسوب کر دیگا، کیونکہ جن تو غائب ہے اور اس کی صداقت کو پرکھنا ممکن نہیں، اور اسلام تو اس پر حریص ہے کہ نسل اور عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے اور پھر خرابیوں کو دور کرنا جلب مصلحت پر مقدم ہے، جیسا کہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے۔

2 ان دونوں کی شادی اور نکاح ہونے

کے نتیجہ میں اولاد اور ازدواجی زندگی کے نتائج کیا ہونگے، اور اولاد کس کی طرف منسوب ہوگی، اور ان کی خلقت کیسی ہوگی، اور آیا بیوی جن کی عدم شکل ہونے کے باوجود لازم ہوگی؟

3 جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے

میں انسان اذیت و ضرر سے امن میں نہیں رہ سکتا بلکہ اسے نقصان و ضرر ہوگا اور اسلام تو بشریت کو نقصان و اذیت سے محفوظ رکھنے کی حرص رکھتا ہے۔

اس طرح ہم اس دروازے کو کھولنے سے

چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دروازہ کھولنے سے تو ایسی مشکلات پیدا ہونگی جن کی کوئی انتہاء ہی نہیں، اور ان کو حل کرنا بھی مشکل ہو جائیگا، اس میں یہ بھی اضافہ کریں کہ اس کے نتیجہ میں مرتب ہونے والے نقصانات عقل اور نفس اور عزت کے لیے یقینی نقصانہ ہیں، اور دین اسلام تو اس کی حفاظت کی حرص رکھتا ہے، اور پھر ان دونوں کا آپس میں شادی کرنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

اس لیے ہم تو شرعاً اس کی ممانعت کی

قول کی طرف مائل ہیں، اگرچہ اس کے وقوع کا احتمال ہے۔

اور اگر ایسا ہو بھی جائے، یا اس طرح

کی کوئی مشکل ظاہر ہو جائے تو اس کو ایک مرض اور بیماری کی حالت شمار کرنا چاہیے جس کا اس کے مطابق علاج کیا جائے، اور اس کا دروازہ مت کھولا جائے۔

دیکھیں: الحج فی القرآن والسنة)

(206).

واللہ اعلم.